



بنو سلمہ! اپنے گھروں میں ہی رہو، تمہارے قدموں کے نشان لکھ جاؤ، میں، اپنے گھروں میں ہی رہو تمہارے قدموں کے نشان لکھ جاؤ میں

جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنو سلمہ (قبیلہ) نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا نبی کریم ﷺ کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے ان سے فرمایا مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ تم لوگ مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ رکھتے ہو، تو انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ! ہمارا ارادہ ہے آپ نے فرمایا: ”اے بنو سلمہ! اپنے گھروں میں ہی رہو، تمہارے قدموں کے نشان لکھ جاؤ، میں، اپنے گھروں میں ہی رہو تمہارے قدموں کے نشان لکھ جاؤ میں“ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ”تمہارے ہر قدم پر ایک درجہ ہے“

[صحیح] [امام بخاری نے اسی کے مثل روایت کی ہے - اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے]

اس حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ بنو سلمہ نے مسجد سے دور اپنی جگہ سے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا تو نبی کریم ﷺ نے ناپسند فرمایا تاکہ مدینہ خالی نہ ہو جاوے جیسا کہ بخاری کی روایت میں ہے اور آپ ﷺ کی یہ خواہش تھی کہ مدینہ کو زیادہ سے زیادہ آباد کیا جائے تاکہ اس کی وسعت کے باعث منافقین اور مشرکین پر رعب قائم ہو پھر آپ ﷺ نے ان سے پوچھا کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ تم لوگ مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ رکھتے ہو؟، تو انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ! ہمارا ایسا ہی ارادہ ہے آپ نے فرمایا: ”اے بنو سلمہ! اپنے گھروں میں ہی رہو تمہارے قدموں کے نشان لکھ جاؤ میں“ آپ نے یہ بات دو مرتبہ کہی اور ان کو بتایا کہ تمہارے ہر قدم پر ایک نیکی یا درجہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے سب سے زیادہ اجر کا حقدار وہ ہے جس کا گھر (مسجد سے) دور ہو پوچھا گیا: وہ کیوں ہے ابو ہریرہ؟ تو فرمایا (مسجد تک چلنے والے) قدموں کی کثرت کے باعث (مؤطا امام مالک) پس جو مسجد سے جتنا دور ہوگا یہ اس کے لیے درجات میں بلندی اور گناہوں کے کفار کے باعث ہوگا یہ فضیلت اس وقت حاصل ہوگی جب کوئی شخص گھر میں اچھی طرح وضو کرے، پھر پیدل جائے سوار نہ ہو پھر چائے قدم تھوڑے ہوں یا زیادہ اس کے لیے ہر قدم پر دو چیزیں لکھی جائیں گی: اس کا ایک درجہ بڑھ جائے گا اور ایک گناہ معاف ہوگا نبی ﷺ کے ایک صحابی سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر نماز کے لیے جائے تو جب دایاں پاؤں اٹھائے گا تو اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھے گا اور جب بائیں پاؤں اٹھائے گا تو اللہ اس کا ایک گناہ معاف کر دے گا پس جو قریب ہو سکے ہو جائے اور جو دور ہونا چاہے دور ہو جائے“ (ابو داؤد) ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: آج رات میرا رب میرے پاس خوبصورت شکل میں آیا - راوی کا بیان ہے کہ میرا گمان ہے اس سے آپ ﷺ کی مراد نیند میں ہے اور مجھ سے فرمایا ہے محمد ﷺ کیا آپ کو یہ علم ہے کہ ملا اعلیٰ (بلند فرشتہ) کس چیز میں تکرار کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں، وہ کفار اور درجات میں تکرار کر رہے ہیں! پوچھا یہ کفار اور درجات کیا ہیں؟ کہا: کفار اور درجات یہ ہیں کہ نماز کے بعد مسجد میں ہی ٹھہرنا اور باجماعت نماز کے لیے پیدل چلنا اور ناپسندیدگی کے باوجود مکمل طور سے وضو کرنا (مسند احمد) یہ اس بات کی دلیل ہے کہ درجات کا حصول چند باتوں پر منحصر ہے: 1 طہارت کے ساتھ مسجد جانا 2 ثواب کی نیت جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے (متفق علیہ) 3 گھر سے مسجد جانے ہی کے ارادہ سے نکلنا 4 سواری کے بجائے پیدل جانا سوائے ایسے شخص کے جس کوئی عذر لاحق ہو



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

